

<p>۱۴ ۲۱</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="8">آیاتھا ۱ ﴿۱۰۶﴾ سورہ قریش ﴿۱۰۶﴾ رکوعہا</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">رکعہ ۱</td><td colspan="2" style="text-align: center;">(106) سُورَةُ قُرْيَشٍ کوئریش کا کہیا</td><td colspan="2"></td><td style="text-align: center;">آیات ۴</td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td colspan="8" style="text-align: center;">بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ</td> </tr> <tr> <td colspan="8" style="text-align: center;">اللّٰہُمَّ إِنَّا نُسَبِّحُكَ وَإِنَّا نُعَذِّبُهُمْ بِمَا كَانُوا فِي أَعْمَالِهِمْ</td> </tr> <tr> <td colspan="8" style="text-align: center;">۱ لِيْلٰفِ قُرْيَشٍ ۲ الْفِهْمٌ رَحْلَةُ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">۲</td><td>اوہر گرمی</td><td>سردی</td><td>سفر</td><td>عن کا ماںوس کرنے کے سبب</td><td style="text-align: center;">۱</td><td>کوئریش</td><td>ماںوس کرنے کے سبب</td></tr> <tr> <td colspan="8" style="text-align: center;">۳ فَلَيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۴ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُنُوْنٍ</td> </tr> <tr> <td>بُوك</td><td>سے-مے</td><td>عنہ خانا دیا</td><td>جو-جیس</td><td style="text-align: center;">۳</td><td>�ر</td><td>ایس</td><td>پاس چاہیہ کی وہ یکا داد کرے</td></tr> <tr> <td colspan="8" style="text-align: center;">۵ وَأَمَّنَهُمْ مِنْ حَوْفٍ</td> </tr> <tr> <td colspan="8" style="text-align: center;">۶ أَرْءَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ۷ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتَيْمَ</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">۲</td><td>یتیم</td><td>ধکر کے دےتا ہے</td><td>جو کی</td><td>یہی ہے وہ</td><td style="text-align: center;">۱</td><td>روزے جزا او سزا</td><td>بُوتلاتا ہے</td></tr> <tr> <td colspan="8" style="text-align: center;">۸ وَلَا يَحُضُ عَلٰی طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۹ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّيْنَ</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">۴</td><td>نمازیوں کے لیے</td><td>پس خراہی</td><td style="text-align: center;">۳</td><td>میسکین</td><td>خانا</td><td>پر</td><td>رُغبات دیلاتا نہیں</td></tr> <tr> <td colspan="8" style="text-align: center;">۱۰ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۱۱ الَّذِيْنَ هُمْ</td> </tr> <tr> <td>وہ</td><td>جو کی</td><td style="text-align: center;">۵</td><td>گرافیل (جمما)</td><td>अपनी नमाज़</td><td>से</td><td>वह</td><td>जो कی</td></tr> <tr> <td colspan="8" style="text-align: center;">۱۲ يُرَاءُوْنَ ۱۳ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">۷</td><td>آام جرعت کی چیز</td><td>روکتے ہیں (نہیں دےتا)</td><td style="text-align: center;">۶</td><td>دیخاوا کرتے ہیں</td><td colspan="3"></td></tr> <tr> <td colspan="8" style="text-align: center;">۱۴ آیاتھا ۲ ﴿۱۰۷﴾ سورہ الماعون ﴿۱۰۷﴾ رکوعہا</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">۱۴ ۲۲</td><td>رکعہ ۱</td><td colspan="2" style="text-align: center;">(107) سُورَةُ الْمَاعُونَ روزانا اسلامیہ کی چوڑی چیزیں</td><td colspan="2"></td><td style="text-align: center;">آیات ۷</td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td colspan="8" style="text-align: center;">بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ</td> </tr> <tr> <td colspan="8" style="text-align: center;">۱۵ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۱۶ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ</td> </tr> <tr> <td>۱۷</td><td>پس نماز پڈے</td><td style="text-align: center;">۱</td><td>کوئسرا</td><td>ہم نے آپ (س)</td><td></td><td>بے شک</td><td>ہم</td></tr> <tr> <td colspan="8" style="text-align: center;">۱۷ وَإِنَّمَا الْمُنْذَنُ لِرَبِّكَ ۱۸ فَصَلِّ لِرَبِّكَ</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">۳</td><td>دُوم کتا- نامورا د- بے نسل</td><td>وہ</td><td>آپ (س) کا دُشمن</td><td>بے شک</td><td style="text-align: center;">۲</td><td>اور کوروا نی دے</td><td></td></tr> </tbody> </table>	آیاتھا ۱ ﴿۱۰۶﴾ سورہ قریش ﴿۱۰۶﴾ رکوعہا								رکعہ ۱	(106) سُورَةُ قُرْيَشٍ کوئریش کا کہیا				آیات ۴			بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ								اللّٰہُمَّ إِنَّا نُسَبِّحُكَ وَإِنَّا نُعَذِّبُهُمْ بِمَا كَانُوا فِي أَعْمَالِهِمْ								۱ لِيْلٰفِ قُرْيَشٍ ۲ الْفِهْمٌ رَحْلَةُ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ								۲	اوہر گرمی	سردی	سفر	عن کا ماںوس کرنے کے سبب	۱	کوئریش	ماںوس کرنے کے سبب	۳ فَلَيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۴ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُنُوْنٍ								بُوك	سے-مے	عنہ خانا دیا	جو-جیس	۳	�ر	ایس	پاس چاہیہ کی وہ یکا داد کرے	۵ وَأَمَّنَهُمْ مِنْ حَوْفٍ								۶ أَرْءَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ۷ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتَيْمَ								۲	یتیم	ধکر کے دےتا ہے	جو کی	یہی ہے وہ	۱	روزے جزا او سزا	بُوتلاتا ہے	۸ وَلَا يَحُضُ عَلٰی طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۹ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّيْنَ								۴	نمازیوں کے لیے	پس خراہی	۳	میسکین	خانا	پر	رُغبات دیلاتا نہیں	۱۰ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۱۱ الَّذِيْنَ هُمْ								وہ	جو کی	۵	گرافیل (جمما)	अपनी नमाज़	से	वह	जो कی	۱۲ يُرَاءُوْنَ ۱۳ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ								۷	آام جرعت کی چیز	روکتے ہیں (نہیں دےتا)	۶	دیخاوا کرتے ہیں				۱۴ آیاتھا ۲ ﴿۱۰۷﴾ سورہ الماعون ﴿۱۰۷﴾ رکوعہا								۱۴ ۲۲	رکعہ ۱	(107) سُورَةُ الْمَاعُونَ روزانا اسلامیہ کی چوڑی چیزیں				آیات ۷			بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ								۱۵ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۱۶ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ								۱۷	پس نماز پڈے	۱	کوئسرا	ہم نے آپ (س)		بے شک	ہم	۱۷ وَإِنَّمَا الْمُنْذَنُ لِرَبِّكَ ۱۸ فَصَلِّ لِرَبِّكَ								۳	دُوم کتا- نامورا د- بے نسل	وہ	آپ (س) کا دُشمن	بے شک	۲	اور کوروا نی دے		<p>۱۵ ۲۱</p> <p>اللّٰہ کے نام سے جو بہت مہربان، رہم کرنے والा ہے کوئریش کو ماںوس کرنے کے سبب، (1) عنہ سردا گرمی کے سفار سے ماںوس کرنے کے سبب، (2) پس چاہیہ کی وہ یکا داد کرے یکا داد کرے، (3) جس نے عنہ خانا دیا بُوك میں، اور امّن دیا خُواف میں، (4) اللّٰہ کے نام سے جو بہت مہربان، رہم کرنے والा ہے کیا تुم نے اس شکس کو دے خا جو روزے جزا او سزا کو بُوتلاتا ہے؟ (1) وہی ہے جو یتیم کو دھکے دےتا ہے، (2) اور نہیں ٹکساتا میسکین کو خانا خیلائے پر، (3) پس خراہی ہے عنہ نمازیوں کے لیے، (4) جو اپنی نمازوں سے لایکراہ ہے، (5) جو دیخاوا کرتے ہیں، (6) اور آام جرعت کی چیز (بھی مانتی) نہیں دےتا، (7) اللّٰہ کے نام سے جو بہت مہربان، رہم کرنے والा ہے بے شک ہم نے آپ (س) کو “کوئسرا” اٹتا کیا، (1) پس اپنے یکا داد کے لیے نماز پڈے اور کوروا نی دے، (2) بے شک آپ (س) کا دُشمن ہی نامورا د ہے، (3)</p>
آیاتھا ۱ ﴿۱۰۶﴾ سورہ قریش ﴿۱۰۶﴾ رکوعہا																																																																																																																																																																																																			
رکعہ ۱	(106) سُورَةُ قُرْيَشٍ کوئریش کا کہیا				آیات ۴																																																																																																																																																																																														
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ																																																																																																																																																																																																			
اللّٰہُمَّ إِنَّا نُسَبِّحُكَ وَإِنَّا نُعَذِّبُهُمْ بِمَا كَانُوا فِي أَعْمَالِهِمْ																																																																																																																																																																																																			
۱ لِيْلٰفِ قُرْيَشٍ ۲ الْفِهْمٌ رَحْلَةُ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ																																																																																																																																																																																																			
۲	اوہر گرمی	سردی	سفر	عن کا ماںوس کرنے کے سبب	۱	کوئریش	ماںوس کرنے کے سبب																																																																																																																																																																																												
۳ فَلَيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۴ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُنُوْنٍ																																																																																																																																																																																																			
بُوك	سے-مے	عنہ خانا دیا	جو-جیس	۳	�ر	ایس	پاس چاہیہ کی وہ یکا داد کرے																																																																																																																																																																																												
۵ وَأَمَّنَهُمْ مِنْ حَوْفٍ																																																																																																																																																																																																			
۶ أَرْءَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ۷ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتَيْمَ																																																																																																																																																																																																			
۲	یتیم	ধکر کے دےتا ہے	جو کی	یہی ہے وہ	۱	روزے جزا او سزا	بُوتلاتا ہے																																																																																																																																																																																												
۸ وَلَا يَحُضُ عَلٰی طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۹ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّيْنَ																																																																																																																																																																																																			
۴	نمازیوں کے لیے	پس خراہی	۳	میسکین	خانا	پر	رُغبات دیلاتا نہیں																																																																																																																																																																																												
۱۰ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۱۱ الَّذِيْنَ هُمْ																																																																																																																																																																																																			
وہ	جو کی	۵	گرافیل (جمما)	अपनी नमाज़	से	वह	जो कی																																																																																																																																																																																												
۱۲ يُرَاءُوْنَ ۱۳ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ																																																																																																																																																																																																			
۷	آام جرعت کی چیز	روکتے ہیں (نہیں دےتا)	۶	دیخاوا کرتے ہیں																																																																																																																																																																																															
۱۴ آیاتھا ۲ ﴿۱۰۷﴾ سورہ الماعون ﴿۱۰۷﴾ رکوعہا																																																																																																																																																																																																			
۱۴ ۲۲	رکعہ ۱	(107) سُورَةُ الْمَاعُونَ روزانا اسلامیہ کی چوڑی چیزیں				آیات ۷																																																																																																																																																																																													
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ																																																																																																																																																																																																			
۱۵ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۱۶ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ																																																																																																																																																																																																			
۱۷	پس نماز پڈے	۱	کوئسرا	ہم نے آپ (س)		بے شک	ہم																																																																																																																																																																																												
۱۷ وَإِنَّمَا الْمُنْذَنُ لِرَبِّكَ ۱۸ فَصَلِّ لِرَبِّكَ																																																																																																																																																																																																			
۳	دُوم کتا- نامورا د- بے نسل	وہ	آپ (س) کا دُشمن	بے شک	۲	اور کوروا نی دے																																																																																																																																																																																													